

سیکرٹری صحت جسمانی

﴿90﴾ سیکرٹری صحت جسمانی اپنی کارکردگی کو دو طریق پر منظم کریں گی۔

الف: ممبرات کو ہائی جین، صحت اور فرسٹ ایڈ کے متعلق ضروری معلومات فراہم کریں گی۔
 ب: مختلف کھیلوں یعنی ٹیبل ٹینس، والی بال، دوڑیں، چھلانگ، گھوڑ سواری، سائیکل سواری، تیراکی، نشانہ غلیل وغیرہ میں لجنہ کی ممبرات کو شرکت کی ترغیب دیں گی۔
 ﴿91﴾ سیکرٹری صحت جسمانی ممکنہ حد تک انفرادی کھیلوں کے مقابلے اور ٹورنامنٹس کے انعقاد کا انتظام کریں گی۔

﴿92﴾ ہر مقامی لجنہ کا فرض ہوگا کہ صحت جسمانی کا شعبہ ضرور قائم کرے، اور ایسی علیحدہ سیکرٹری مقرر کرے۔

﴿93﴾ سیکرٹری صحت جسمانی کی ذمہ داری ہوگی کہ وقتاً فوقتاً جملہ مجالس کے اجلاسوں میں ایسی تقاریر کا انتظام کروائیں جو صحت کو برقرار رکھنے کے اصولوں سے متعلق ہوں۔

دستور اساسی (صفحہ ۱۸-۱۹)